

برسٹل کا معلق پل

برسٹل کا معلق پل جسے کلفٹن کے معلق پل کہ نام سے جانا جاتا ہے تقریباً 150 سال قبل تعمیر کیا گیا۔ یہ پل دنیا بھر سے آنے والے سیاحوں کے لیے دلچسپی کا سبب ہے۔ برسٹل شہر کے باسی اس پل کے نظارے سے محظوظ ہونے کے لیے اپنے دوستوں ہمراہ اس پل کی طرف کھچے چلے آتے ہیں۔ یہ بات دلچسپی سے خالی نہیں کہ تقریباً دو صدیوں کا یہ سفر اس پل نے اپنے ہی کمانے کی صلاحیت کہ بل بوتے پر طے کیا ہے۔ آج تک اسکو کسی حکومتی ادارے کی مدد کی ضرورت نہیں پڑی۔ پل کو چلانے والا ایک تعمیراتی انجینئر ہوتا ہے جو اسکی روز مرہ معمولات اور عمل کاری کی دیکھبھال کا ذمہ دار ہوتا ہے۔

دوستو اس پل کی کہانی اسکے بننے سے بھی پرانی ہے۔ یہ کہانی تب شروع ہوئی جب ایک شراب کہ تاجر نے مرتے وقت ایک ہزار برطانوی روپے اس مقصد کے لیے وصیت کر دیے کہ ایک ایسے مقابلے کا انعقاد کیا جائیگا جس میں جارج کہ علاقے پر ایک پل کی تعمیر کا خاکہ پیش کیا جائے۔ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے اس رقم کو کاروبار میں لگایا گیا اور پھر جب یہ رقم دس ہزار برطانوی روپے کہ برابر ہو گئی تو اس مقابلے کو پہلی بار سن اٹھارہ سو انتیس میں منعقد کیا گیا۔ اس مقابلے کے جج سر تھومس ٹیلفورڈ اپنے وقت کہ جانے مانے تعمیراتی انجینئر تھے۔ جج صاحب نے تمام جمع کرائے گئے تصوراتی خاکے مسترد کر دیے اور اپنا بنایا ہوا ایک خاکہ پیش کیا۔ اس خاکے کو کچھ

وجوہ کی بنا پر زیادہ پذیرائی نہ مل سکی اور اسکو بھی مسترد کر دیا گیا . اگلے مقابلے کا بندوبست سن اٹھارہ سو تیس میں کیا گیا . اس بار 24 سالہ اسمبرڈ کنگڈوم بروئل کو اسکا فاتح قرار دیا گیا . انہی کو یہ پل بنانے کی ذمہ داری دی سونپی گئی . بہت سی سیاسی اور معاشی وجوہ سے اس پل کی تعمیر تعطل کا شکار رہی . سن 1843، میں جب اس پل کہ صرف منارے ہی تعمیر ہو سکے تھے ، اس پل کی تعمیر روک دی گئی . 1859 میں بروئل 53 سال کی عمر میں اس جہانے فانی سے کوچ کر گیا . اس نے اپنی چھوٹی سی زندگی میں جو کامیابیاں حاصل کی اسکو دیکھ کر اسکے ساتھی تعمیراتی انجنیئرز نے فیصلہ کیا کہ وہ کسی بھی قیمت پر اس پل کو تعمیر کرینگے تاکہ بروئل کا خواب پورا ہوسکے . یوں یہ پل سن 1864 میں پورا ہوا اور عوام کہ لئے کھول دیا گیا . یہ پل جو کہ گھوڑا گاڑیوں کہ لیے انیسویں صدی میں بنایا گیا تھا آج ایکسویں صدی میں بھی قابل استعمال ہے . اس پل سے روزانہ تقریباً 11000 گاڑیاں گزرتی ہیں .

یہ معلوماتی صفحات آپ کہ لئے کلفٹن معلق پل چلانے والی انتظامیہ کی طرف سے تیار کروائے گئے . ہم آپکو یہاں

خوشامدید کہتے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ آپکو اس پل کا نظارہ ہمیشہ ایک اچھے وقت کی یاد دلائے گا .